

احکام و مسائل رمضان المبارک

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. أما بعد!
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين امنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوون (٢١٠) (ابره)

اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد ان الفاظ میں واضح بیان فرمایا ہے کہ:

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام
اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور پھر ان اعمال کی نشاندہی
کرتے ہوئے اس کی کچھ حدود قیود بھی بیان فرمائی ہیں کہ فلاں فلاں عمل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والا
ہے اور فلاں عمل اللہ تعالیٰ کی نار فیض کا سبب ہے انہی اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ
کے قرب کا ذریعہ ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محظوظ ہے کہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا:

”کل عمل نہ آدم نہ الا صیام فانہ لی وانا اجزی به (بخاری)/ ٥٥٥ کتب الصوم)
“کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹھ کا ہر عمل اس کے اپنے لئے ہے سوائے روزے کے اس کا
یہ عمل میرے لئے ہے اور میں خود بھی اس کی جزا دوں گا۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

والذى نفس محمد بيده لخلف فم الصائم اطيب عند الله من ريح

المسك (بخاری/ص ٥٥٦۔ باب فصل الصوم)

”مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے روزے دار کے من کی نو اللہ
تعالیٰ کو کستوری کی نو سے بھی زیادہ پاکیزہ (محبوب) ہے۔“

اس قدر محظوظ عمل روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے خاص فضل و رحمت کرتے
ہوئے سال میں ایک مہینہ فرض قرار دے دیا تاکہ جو لوگ اپنی سنتی یا کامیلی کی وجہ سے عام دنوں میں روزہ

رکھ کر یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے وہ فرض بحث کر رمضان المبارک کو روزے میں گزار دیں تاکہ کبھی مسلمان یہ سعادت حاصل کریں۔

فضائل رمضان المبارک

پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بارکت بنا یا اور عام مہینوں پر اس کو فضیلت و برتری عطا فرمادی جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں کہ قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن (ابقر)

”کر رمضان المبارک وہ (بابرکت) مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔“

اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين (بخاری/ ۵۵، کتاب الصم) ”جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری کی) ہی ایک حدیث کے الفاظ ہیں: فتحت ابواب الجنة. کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں (اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجروں میں جکڑ دیا جاتا ہے)“ ”رمضان المبارک کی فضیلت کو امام کائنات حضرت محمد ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الجنة تزحف لرمضان من راس الحول الى حول قابل قال فإذا كان اول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقلن يا رب اجعل لنامن عبادك ازواجا تقربهم اعيننا وتفر اعينهم بنا (مکرہ/ ۴۵، کتاب الصم)

”بے شک جنت کو رمضان المبارک کیلئے ایک سال تک مزین کیا جاتا ہے تو جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی حور عین تک پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے جوڑے ہادے کہ ان سے ہماری آنکھیں مٹھنڈی ہوں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں مٹھنڈی ہوں۔“

”اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کیلئے انخیاء و رسائل کو میوث فرمایا آسمان سے دی کے ذریعے کتابوں کی محل میں احکامات نازل فرمائے اور سب سے آخر میں ختم الرسل ﷺ کو بیجا جن کی تعلیمات

قيامت تک لوگوں کو راہ ہدایت کی رہنمائی کرتی رہیں گی لیکن جب رمضان المبارک کامہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔

وَيَنَادِي مَنَادِي بِأَغْنِيِ الْخَيْرِ أَقْبَلَ وَيَبَاغِي الشَّرَ أَقْصَرَ وَلِلَّهِ عَتْقَاءُ مِنَ النَّارِ

وذاك كُلُّ لِيْلَةٍ (ترمذی/۲۷۲۸، کتاب الصوم)

”اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اے بھلائی میں رغبت رکھنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کی رغبت رکھنے والے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی جہنم سے آزاد کرنا ہے اور یہ عمل ہر رات جاری رہتا ہے“

اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کے دن رات میل و نہار اور ایک ایک لمحے کو باہر کت بنا دیا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایماناً واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه (بخاری/۲۶۹، باب فضیل من قام رمضان)

”کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا (یعنی رات کو نماز پڑھی) اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں“ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ من صام رمضان ایماناً واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه (بخاری/۲۵۵، باب من صام رمضان)

”جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

ان تمام احادیث سے رمضان المبارک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں۔ جن میں ماہ رمضان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر اس پر اکتفا کر کے چند ضروری مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہئے کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق گزارے اور رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنائے اور برا کیوں سے اجتناب کرے۔

استقبال رمضان

بعض لوگ رمضان المبارک کے استقبال کے نام پر ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں ایسا

روزہ رکھنے سے بادی برحق ﷺ نے من فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومن الا ان یکون صوم یصومہ رجل فلیصم ذالک الصوم (ابوداؤد/ ۳۲۲ کتاب الصوم)

”کہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کا روزہ نہ رکو گروہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتا ہے تو وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔“

مثلاً ایک آدمی ہر سو ماہ اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتا ہے اب رمضان المبارک مغل یا جمع کو شروع ہو رہا ہے تو یہ آدمی اس دن سو ماہ یا جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے۔
کیونکہ اس نے یہ روزہ معمول کے مطابق رکھنا ہے نہ کہ استقبال رمضان کیتے۔

رؤیت ہلال

رمضان المبارک کا روزہ چاند کیکر رکھنا چاہئے تک کی صورت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا رأيتموه فصو مو اذا رأيتموه فاطروا افان غم عليكم فاقدروا الله (بخاری/ ۵۵)

(کتاب الصوم باب رؤیت الہلال)

”جب تم چاند کیکر روزہ رکھوا رجب تم اس کو دیکھو تو افظار کرو اگر تم پر مطلع ابرآ لوڈ کر دیا جائے تو پہلی قسم اس کا اندازہ لگایا کرو“ (یعنی شعبان اور رمضان کی تلتی ۳۰ تک مکمل کیا کرو جیسا کہ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں: فا کملوا العدة للثین۔ کم تم تک تلتی مکمل کیا کرو۔)

چاند دیکھنے کی دعا

رسول اللہ ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے:

ہلال خیرو رشد ہلال خیرو رشد ہلال خیرو رشد امانت بالذی خلقک
(اے اللہ) اس کو خیریت اور ہدایت کا چاند بنا، میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے (اے چاند) تجھے پیدا کیا۔ (ابوداؤد/ ۳۲۷ کتاب الادب)

پھر آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے:

ا
ر
غ
ا
م
د
ت

ا
ی
ا

الحمد لله الذي ذهب بشهر کدا و جاء بشهر کدا (ابوداؤد/ ۳۲۷)

”تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو ایسا مہینہ لے آیا اور ایسا مہینہ لے گیا۔“

اور ایک دوسری حدیث میں یہ دعا بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب چاند کو دیکھتے تو فرماتے: اللهم اهلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک الله (ترنی ۱۸۲/ کتاب الدعوات) ”اے اللہ اس چاند کو ہمارے لئے اس انیمان سلامتی اور اسلام والا بنا۔ (اے چاند) میرا رب اور تیراب اللہ تعالیٰ ہے۔

نوت

آن کل چاند دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی بلکہ حکومت کی اطلاع پر ہی انحصار کیا جاتا ہے اس لئے چاند کے طلوں ہونے کی جب بھی خبر ملے تو آدمی یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔

نیت روزہ

رسول اللہ ﷺ نے ہر عمل کا درود ادا نیت پر قرار دیا ہے جو آدمی جس کام کے لئے جس چیز کی نیت کریگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق جزا دیگا۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:

لِنَمَا لَأَصْعَلَ بِالنِّيَّاتِ وَلِنَمَا لَعْنَى مُلْنُوْيَا (بخاری/ ۶/ باب یک کان بدء الواقی)

”بے شک اعمال کا درود ادا نیت پر ہے بے شک آدمی کیلئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی“ اس لئے ہر عمل کرنے سے پہلے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کیلئے کرنے کی نیت کرنی چاہئے مگر روزے کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ روزے کی نیت رات کو ہی فخر سے پہلے کر لینی چاہئے کیونکہ جو آدمی فرضی روزے کی نیت فخر سے پہلے نہیں کر لیگا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ارشاد یقیناً ﷺ ہے:

مِنْ لَمْ يَجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (ابوداؤد/ ۳۲۹، کتاب الصوم) (ترنی ۱۵۲/ باب

الصوم) (۲۶۱/ کتاب الصوم)

”جو شخص فخر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کر لیگا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔“

اس لئے ضروری ہے کہ صحیح کے روزے کی نیت رات کو ہی کر لی جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فخر

کے بعد بھی زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے تو یہ فرضی روزے میں درست نہیں اور نیت کا تعلق دل کے ارادے اور عزم سے ہے جو لوگ زبان سے وبصوم غد نوبت من شہر رمضان کے الفاظ کہتے ہیں وہ خلاف سنت کام کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے احتساب ضروری ہے اور بھردار اس کے معانی پر غور کریں تو عقلاءً بھی یہ لفظ کہنا درست نہیں کیونکہ ان الفاظ کے معانی ہیں ”میں نے کل کے روزے کی نیت کی“ اور یہ الفاظ حرفی کے کھانے کے بعد کہنے جاتے ہیں جیسا کہ اُوی اور یہ یوپ بھی نائے جاتے ہیں سوال ہے کہ اگر تو اسی دن کے روزے کی نیت کر رہا ہے تو کل کے روزے کی نیت کہ کہ جھوٹ بول رہا ہے اور اگر آئندہ آنے والے کل (دن) کی نیت کر رہا ہے تو پھر جس دن کا یہ روزہ رکھ رہا ہے اس کی نیت کہاں گئی اس لئے یہ الفاظ غلط ہیں نہ تو عقلاءً صحیح ہیں اور نہ یعنی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔

قیام اللیل

دیے تو ہر مسلمان کو قیام اللیل کا ہر رات اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے لیکن رمضان المبارک میں اس کا اجر و تواب بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من قام رمضان ایمانا و احسانا با غفرله ما تقدم من ذنبه " جو شخص رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں تواب کی نیت سے کر لیا اس کے سابقہ گناہ محفوظ کر دیئے جاتے ہیں،" مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیٰ میں صرف وہی اعمال قول ہوتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے طریقے کے مطابق ہوں۔ جو اعمال آپ ﷺ کی سنت کے خلاف ہوں گے وہ ہرگز قول نہیں کے جائیں گے خواہ وہ اجر و تواب کے لحاظ سے بہت بماری یعنی کیوں نہ ہوں؟ ناطق وہی رسول حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من احادیث فی امر ناهلنا مالیس منه فهورد (بخاری/۱۸۲۶ کتب صلی - سلی/۱۴۷) "کسی شخص بھی ہماری شریعت میں کوئی ایسا عمل انجام کر لیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ عمل روکر دیا جائیگا" اس لئے ہر آدمی کو چاہئے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو اسہر رسول اللہ ﷺ کے مطابق ادا کرے تاکہ وہ قبول کا درجہ حاصل کر کے اجر و تواب کا باعث ہو رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان

میں و ترسیت گیارہ رکعات عشاء اور جمکری نماز کے علاوہ رات کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ غیر رمضان میں آپ ﷺ کے وقت ادا فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں آپ نے تین دن مختلف اوقات میں ادا فرمائیں کہ اس کی سیولت کیلئے عشاء کے متصل بعد پڑھنے کی بھی اجازت فرمادی۔ آپ ﷺ کی اس نمازو کو قیام اللہ اور تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تراویح کے نام سے مشہور ہیں تو اس لحاظ سے تراویح کی نماز و ترسیت گیارہ رکعت ہی سنت قرار پائی اس سے کم یا زیادہ رکعات کو سنت رسول ﷺ نہیں کہا جاسکتا۔

ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة (بخاری / ۵۸۲، کتاب التجدید باب قیام اللہ ﷺ بالليل فی رمضان وغیره)

”کہ رسول ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے“

اس لئے سنت تراویح و ترسیت گیارہ رکعات ہی ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں حدیث سے بھی ثابت ہے اور جید علمائے احتفاف کے اقوال بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ میں رکعت یا اس سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی سنت نہیں ہے۔ تفصیل کا یہاں جمل نہیں اگر مقصود ہو تو اس مسئلہ پر مستقل کتب موجود ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے رات کے آخری حصے میں اور جمکری سے پہلے کھانا کھانے کو حرجی کا کھانا کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: تسحر و افان فی السحور بروکہ (بخاری / ۲۵۷، ۳۵۹، کتاب الصوم، مسلم / ۱۷۲۵، کتاب الصوم)

”حرجی کھایا کرو بے شک حرجی کھانے میں برکت ہے۔“

حرجی کا وقت

حرجی کھانے کا بہترین وقت حرجی کے آخری وقت یعنی جمکری سے پہلے کھانا ہے بعض لوگ ۲-۳ کھنٹے یا اس سے کم یا زیادہ وقت پہلے کھانا کھایتے ہیں اور پھر بعض جمکری نماز تک سوئے رہتے ہیں اور بعض اس کے بعد تک تو یہ درست نہیں ہے۔ روزہ تو اگرچہ ہو جائیگا مگر ایسا شخص حرجی کی برکت سے محروم ہو گا کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ دیر سے حرجی کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تسسخرنا مع رسول اللہ ﷺ ثم قام الی الصلوة

حالت کم کان بین الاذان والسمور قال قدر خمسین آیہ (بخاری/ ۲۵۸ کتاب الصوم)

”هم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کی۔ پھر آپ ﷺ نماز کیلئے کھڑے ہوئے۔

(حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں) میں نے کہا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا (تو

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا) کہ جتنے وقت میں پچاس آیات پڑھی جاسکتی ہیں۔“

اس لئے سحری ہمیشہ آخری وقت میں کھانی چاہئے۔ اگر آدمی جبکہ ہوا و صبح وقت کم ہے تو وہ وضو کر کے سحری کھالے بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے اس کا روزہ درست ہے۔ بعض لوگ اسی صورت میں غسل کے پچھر میں سحری کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں:

ان رسول اللہ ﷺ کان یدر کہ الفجر وہ جنب من اہله ثم یغسل و یصوم

(بخاری/ ۲۵۸ کتاب الصوم / ۳۵۸ کتاب الصوم) بے شک رسول اللہ ﷺ کو جتابت کی حالت میں نجrh ہو جاتی

تو آپ ﷺ سحری کھالیتے پھر غسل کرتے۔ اور روزہ درست

جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حیض و نفاس

جس عورت کو روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ

اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کے یہ ایام گزر جائیں تو باقی روزے رکھے اور جتنے روزے اس کے

چھوٹ گئے ہیں رمضان المبارک کے بعد ان کی قضاۓ لے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ

عورتوں کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا:

لیس اذا حاضت لم تصل ولم تصنم (بخاری/ ۳۳۷ کتاب الحجۃ باب الحائض الصوم)

”کہ کیا یہ صورت نہیں ہے کہ جب عورت حاکمه ہو جاتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ

ہی روزہ رکھتی ہے؟“

جماع

اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے حالت روزہ میں جماع کرے تو ان دونوں کا روزہ ثبوت
جاتا ہے اور ایسا کرنے والا شخص روزے کی قضاۓ گا اور روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ادا کریا جیسا کہ رسول
اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا:

ملکت قال مالک قال وقعت على امراتي وانا صائم قال رسول الله هل

تجدرقة تتحققها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل

تجدر اطعام متين مسكينا قال لا الحديث (بخارى ١٥٦٩ / كتاب الصوم)

”اللہ کے رسول ﷺ میں ہلاک ہو گیا آپ ﷺ نے فرمایا مجھے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ
میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو طاقت رکتا
ہے کہ ایک غلام آزاد کرے؟ وہ کہنے کا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو مسلسل دو میئے روزہ رکھنے کی
طاقت رکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھا سکتا ہے؟ اس نے
کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے تھوڑی دریا نظار کیا اور ایک بوکرا بھروسہ کالا یا کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ
یہ بوکرالے اور تمام بھروسہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ﷺ مدینہ
میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا جا گمراہ کے کھانے اللہ
 تعالیٰ تیر کفارہ قبول کرے گا۔“

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جماع کرے اولًا تو وہ ایک
غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دو ماہ مسلسل روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ
مسکینوں کو کھانا کھائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی رمضان المبارک میں اسی غلطی
کرے اور کفارہ ادا کر دے کیونکہ المدار لوگوں کیلئے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔
ایسا کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے یہ کفارہ تو صرف اس صورت میں ہے کہ
آدمی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس سے یہ فعل ہو گیا ورنہ ہر انسان کو حق الوسح پر ہیز کرنا
چاہئے اور جان بوجھ کر اسی غلطی نہیں کرنی چاہئے۔

قے کرنا

اگر کسی آدمی کو خود قے آجائے تو اس کا روزہ ٹوٹا نہیں اور اگر کوئی جان بوجھ کرتے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ تھوڑی قے کرے یا زیادہ۔ بعض لوگوں نے جو تقسیم کی ہوئی ہے کہ منہ بھر کر آئے یا ایک ہی دفعہ زیادہ آئے تو پھر روزہ ٹوٹا ہے یہ سب غلط ہے۔ قے تھوڑی ہو یا زیادہ اگر جان بوجھ کر کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من ذرعه الفتن فليس عليه قضاء ومن استثناء عمداً افليقض

(ترمذی/ ۱۵۲۳، ابواب الصوم)

”جس شخص کو خود قے آجائے اس پر قضاۓ نہیں اور جو جان بوجھ کرتے کرے تو وہ قضاۓ دے۔“

کھانا پینا

روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اذا نسی فاکل او شرب فلیتم صومه فاما اطعمة الله و سقاہ (بخاری/ ۲۵۹، کتاب الصوم)

”جب کوئی آدمی بھول کر کھایا پی لے تو وہ اپناروزہ مکمل کرے بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا اور پلا دیا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹا جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

روزے کی حالت میں جن کاموں سے پرہیز لازمی ہے
روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا ہی نام نہیں بلکہ ہر اس عمل سے پرہیز کرنا لازمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے یا جن کاموں کو ناپسند کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر روزے کی حالت میں بعض جائز امور مثلاً کھانا پینا اور جامع وغیرہ حرام ہو جاتے ہیں تو جو کام شریعت میں سرے سے ہیں ہی حرام وہ کیوں کر جائز ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے اکثر لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں۔ مگر پھر سارا دن ٹوٹی یا دیواری اسی آرپنگندی فلمیں یا اڑاکے دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ بعض شخص کا نے

سننہ میں اور کوئی لذ و اور شطرنج پر جواہیلہ ہوا یہ کہتا ہے کہ جی روزہ بھی تو نجات ہے۔

میرے بھائیو! یہ سب کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کے میں ان سے عام ایام میں بھی پرہیز لازمی ہے چہ جا یکمہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کئے جائیں اسی طرح بعض نوجوان سکولوں اور کالجوں کے کھلوں پر منڈلاتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تبازاروں میں نوجوانوں کی بھیز ہوتی ہے۔ میری ماڈل بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اولاً تو کوشش کریں کہ خود بازار سے شانگ کرنے کی بجائے اپنے باپ، بیٹے خاوند یا بھائی کے ذریعے مطلوبہ چیز مٹکا لیں اگر کوئی مجبوری ہو تو اپنے کسی حرم کے ساتھ جا کر رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں خرید سکتی ہیں۔ کوئی چاند رات کو جانا تو ضروری نہیں ہے جس طرح بعض آوارہ نوجوان اپنے گھروں سے بے فکر بازاروں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، اسی طرح بعض عورتیں بھی بن ٹھن کر صرف بازاروں کی رونق اور ہلہ گلہ دیکھنے کیلئے جاتی ہیں۔ یاد رکھو یہ سارے اعمال روزے کو بردا کر دیتے ہیں۔ ہادی کائنات ﷺ نے اپنی مبارک زبان نبوت سے ارشاد فرمایا:

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع

طعامه و شرابه (بخاری/ ۲۵۵ کتاب الصوم)

”جو شخص جھوٹ اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔“ (یعنی اس کا کھانا پینا چھوڑنا اور کھاتے پینے رہنا برا بہرہ)

اسی طرح چنانی تھیت مڑیں؛ جھوڑا کمالی گھوڑا یہ رہا ہو یکھنا تاجراز منہ تھوڑا بہن اس سے کام نہیں اس لئے ان سے احتساب انتہائی ضروری ہے لائد تعالیٰ ہم سب کو شکی کرنے لئے رہا ہیں سے پختے کی توفیق عطا فرمائے (آمين)

جاڑزا امور

روزے کی حالت میں بعض ایسے کام بھی ہیں جن کا کرنا جائز ہے خلاصہ کرنا، تخلیکا نا سرمندگا نا آئیند یکھنا کنکھی کرنا وغیرہ جائز ہے ان سے روزے کی صحت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

افطاری

سارا دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق روزے کی حالت میں گزار کر

اب افطاری کا وقت ہوا ہے تو اس وقت جتنی خوشی روزے دار کو ہوتی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص یہاں نہیں کر سکتا۔ خود رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لِصَاتِمْ فَرِحَتَانِ يُفْرِحُهُمَا إِذَا افْطَرُ فَرْحٌ وَإِذَا قَيَّمُ رَبِّهِ فَرْحٌ بِصُورَةِ (بخاری/۲۵۵ کتاب الصوم)
”کہ روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہے، ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی“

مگر بعض لوگ افطاری کے وقت تاخیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسا کہ ادن روزہ رکھا ہوا اب پائچ منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے اور اس طرح وہ دیری سے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہئے بلکہ جلدی افطار کر لیتا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا یزال الناس بخییر ما عجلوا الفطر (بخاری/۶۲۳/باب تحییۃ الاظمار) ”جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے اس وقت تک بھالی پر رہیں گے۔“

افطاری کروانا

افطاری کے وقت کو شش کرنی چاہئے کہ کسی دوسرے بھائی کا روزہ افطار کروا یا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من فطر صائمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ مِنْ أَجْرِ الصَّاتِمِ شِينًا

(جامع ترمذی/۲۶۶/جامع ابواب الصوم)

”جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا یا تو اس کو اس کی مثل اجر ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔“

تو اس طرح آدمی کو اپنے روزے کا ثواب تولما ہی ہے ساتھ ہی اس کو دوسرے کے روزے کا بھی اجر مل جائیگا۔ بلکہ تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہئے کہ ایک دوسرے کی چیز سے روزہ افطار کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنی چیز سے ہی روزہ افطار کریں گے تاکہ ہمارا ثواب کسی دوسرے افطار کروانے والے کو نہ مل جائے تو میرے بھائیو! رسول اللہ ﷺ نےوضاحت فرمادی ہے کہ اس سے روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

روزہ کی افطاری کے وقت یہ عاپر میں چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ یہ عاپر ہے تھے۔

اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت (ابراہیم/ ۳۲۹، کتاب اسم)

”اے اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے ہی روزہ رکھا اور تیرے رزق سے ہی افطار کیا ہے“

اور رسول اللہ ﷺ افطاری کر لیتے تو یہ عاپر ہے۔

ذهب الظمة وابتكت العروق وثبت الاجر ان شد الله (ابراہیم/ ۳۲۸، کتاب اسم)

”پیاس ختم ہو گئی اور رکنیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا“، اس لئے یہی

دعا کیں پڑھنی چاہئیں خود ساختہ الفاظ کہنے سے پر بیز کرنا چاہئے۔

اعتكاف

رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔

کان رسول ﷺ یعنی علیہ السلام عتکاف العشر الاواخر من رمضان (بخاری/ ۱۲۴، باب الاحکاف)

”رسول اللہ ﷺ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کرتے تھے۔“

اعتكاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ولا تباش وهن وانت عاكفون في المساجد (ابقر)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولا اعتکاف الا في مسجد جامع (ابراہیم/ ۳۲۲، کتاب

السیام) ”کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے“

عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں مگر مساجد میں عورتوں کے اعتکاف کا انتظام نہ ہو تو وہ اعتکاف نہ کریں آج کل گھروں میں عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو یہ درست نہیں ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مگر اس کو اعتکاف نہیں کہا جا سکتا۔ ملکف آدمی ضرورت کے وقت اپنے گھر میں بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً اس کو مسجد میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں تو کھانے کیلئے گھر جا سکتا ہے یا کوئی اسی طرح مجبوری بن جائے تو وہ گھر جائے مگر زیادہ دریٹھبرنے کی بجائے ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں واپس آئے۔

مسلمان جب رمضان المبارک کا مہینہ روزے کی حالت میں گزارتے ہیں تو اس ماہ مبارک کے آخر میں کچھ صدقہ کرنا رسول اللہ ﷺ نے فرض فرمایا ہے۔ کیونکہ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ سرا اگر دو ران روزہ کوئی لغزش، غلطی ہوگئی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی کوپورا فرمادیتے ہیں، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

فرض رسول اللہ ﷺ زکوة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث

وطعمہ للمساكین۔ (ابن ماجہ ۲۳۷، کتاب الزکوہ)

”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر فرض کیا جو کہ روزوں کیلئے پاکیزگی ہے فضولیات اور گناہوں سے اور مسکن کیلئے کھانا ہے“

کتب احادیث میں فطرانہ کو صدقہ فطر یا زکوہ الفطر کہا گیا ہے مگر ہمارے ہاں چونکہ فطرانہ کا لفظ معروف اور مستعمل ہے اس لئے بات کو واضح کرنے کیلئے اس کو فطرانہ بھی کہا جائیگا۔ اور یہ فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ غلام ہو یا آزاد غریب ہو یا امیر اس میں مال کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ فطرانہ اس پر فرض یا واجب ہے جس پر زکوہ فرض ہے تو یہ فاطح ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

فرض رسول اللہ ﷺ زکوة الفطر صاعاً من تمر او صاعاً من شعير على

العبد والحر والذکر والانثى والصغير والكبير من المسلمين

(بخاری/۱۶۰۷، باب فرض مدد و اشر)

”رسول ﷺ نے ہر مسلمان پر فطرانہ فرض کیا ہے ایک صاع کھبوروں سے یا ایک صاع جو سے خواہ غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا۔“ اس لئے ہر مسلمان کو خواہ وہ روزے رکھتا ہو۔ فطرانہ ادا کرنا چاہئے جو کہ ایک صاع ہے۔ آج ہمارے مروجہ طریقہ کے مطابق دو کلو سو گرام کے قریب بتا ہے اس لئے احتیاط اتریا اڑھائی کلو گنڈم یا اس کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق قیمت ادا کرنی چاہئے۔ جہاں آٹا استعمال ہوتا ہے مثلاً شہری علاقوں میں وہاں آٹے کی قیمت اور جن علاقوں میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں چاول کی قیمت یا جنس چاول ادا کئے جائیں۔

فطرانہ کا وقت

فطرانہ عید کی نماز ادا کرنے سے قبل ادا کرنا چاہئے۔ ہمارے بعض علاقوں میں لوگ عید الفطر کی صبح کو فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہئے کہ دو چار دن پہلے ادا کر دیا جائے۔ تاکہ اس کا جو ایک مقصد غرباء و ساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے وہ بھی شریک ہو سکیں مثلاً کوئی بچوں کیلئے کپڑے بنالے گا جو تاخیر یہے کیا عید کے دن اچھے کھانے کا بندوبست کرے گا جبکہ عید کے دن فطرانہ کی رقم ملنے پر کما حلقہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک یادوؤں پہلے فطرانہ ادا کر دیتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں منقول ہے۔

کانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین (بخاری ۲۰۵)

”کہ صحابہ کرام فطرانہ عید سے ایک یادوؤں پہلے ادا کر دیتے تھے۔“

عید الفطر

رمضان المبارک کے جب انتیں دن گزر جامیں تو چاند دیکھ کر عید کرنا چاہئے کیونکہ قمری مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اگر مطلقاً ہر آلود ہو تو پورے تیس دن کامل کر کے عید الفطر ادا کرنی چاہئے عید الفطر کے دن غسل کر کے نئے یاد حلے ہوئے صاف سفرے کپڑے پہن کر عید گاہ جانا چاہئے۔ عید الفطر کے لئے طلاق کھجوریں کھانا کر جانا چاہئے اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو چھوارے یا کوئی اور میٹھی چیز بھی کھائی جاسکتی ہے۔ عید گاہ میں آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا بھی سنت ہے اور راستے میں بلند آواز سے تکمیر کہتے ہوئے جانا چاہئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد۔ عید الفطر کی نماز مسجد سے باہر کھلے میدان میں ادا کرنی چاہئے جو کہ بغیر اذان اور اقامت کے دور کعت پا جماعت ادا کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے وہ بھی سب کو سننا چاہئے اور بعد میں اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہئے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان عورتوں کو بھی اس دعا میں شریک ہونے کا حکم فرمایا ہے جنہوں نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرنی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

امرنا رسول اللہ ﷺ ان نصر جهن فی الفطر والاضحی العوائق والعيض

وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين

(مسلم ١/٢٩١، كتاب الصلة العبدية)

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جوان، حیض والیاں اور پرورہ شفین تمام عورتوں کو عیدگاہ لیکر جائیں البتہ حاضر عورتیں نماز سے الگ رہیں اور بھلائی کے کاموں (صدقات دینا اور خطبہ سننا وغیرہ) میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی دعائیں شریک ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جا کر باجماعت عید کی نماز ادا کرنی چاہئے۔

اس مسئلہ میں اور بھی احادیث ہیں مگر اختصار کے پیش نظر اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

شوال کے روزے

شوال کے چھ روزوں کی بھی بہت فضیلت احادیث میں آتی ہے یہ روزے رکھنا نہ تو ضروری ہیں اور نہ ہی رمضان المبارک کا حصہ لیکن چونکہ ان کا بہت زیادہ تواب بیان ہوا ہے۔ اس لئے ان کی فضیلت کو یہاں بیان کیا جاتا ہے تاکہ عامتہ اُلسَّمَین میں سے جو چاہیں یہ اجر حاصل کر لیں حضرت ابو یوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کرتے ہیں۔

ان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَعَامُنَ شَوَّالَ كَانَ كَصِيمٌ

الدھر (مسلم ٣٩٩، کتاب الصائم)

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔“

برا در ان اسلام! یا جرأت مغض کیلئے ہے جو رمضان المبارک کو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق گزارتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی خیر و برکت سے نواز سے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و منت کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں تاکہ اس کے اجر و تواب کے کام حق دار بن سکیں۔ (آمين يا الله العالمين)۔

اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

(ما خواز "جوہرہ بہایت" مصنف فاروق الرحمن یزدانی مدرس جامعہ سلفیہ بیتل آباد)